

# ہائی وے کوڈ

## General Introductions for Pedestrian

### پیدل چلنے والوں کے لیے ہدایات

#### تعریف

کچا راستہ، پکڈ ٹری یا سڑک پر اپنے پاؤں پر چلنے والے کو **pedestrian** کہتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں جو شخص کسی بھی سواری کے علاوہ پیدل چلے گا تو وہ **pedestrian** کہلائے گا۔

#### فوائد

پیدل چلنے والے لوگوں کے لیے بیان کی گئی ہدایات پر عمل کر کے آپ اپنی ذاتی زندگی میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بریف کر سکتے ہیں اور پروفیشنل لائف میں بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔  
پیدل چلنے والے لوگ مختلف اوقات و موسمی اثرات کے درج ذیل ہدایات پر عمل کر کے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔

#### 1- دن کے وقت

- 1- سڑک پر چلنا ہے تو سڑک کے کنارے کچی جگہ پر چلیں۔
- 2- سڑک پر چلتے وقت آپ کا منہ آنے والی ٹریفک کی طرف ہونا چاہیے۔
- 3- اگر فٹ پاتھ ہے تو فٹ پاتھ پر چلیں۔
- 4- فٹ پاتھ پر کھڑے ہرگز نہیں ہوں گے۔
- 5- فٹ پاتھ پر پیدل چلتے وقت اپنا سامان فٹ پاتھ پر نہیں رکھیں گے۔
- 6- فٹ پاتھ اور سڑک پر نہ ہی کبھی کھڑے ہوں اور نہ ہی چلیں۔
- 7- اندھے موٹر پر بائیں طرف آجائیں اور موڑ کر اس کر کے پھر دائیں طرف چلے جائیں۔
- 8- سڑک کر اس کرتے وقت کوشش کریں کہ ایسی جگہ سے کر اس کریں جہاں سڑک کی چوڑائی کم ہو۔
- 9- سڑک کر اس کرتے وقت سیدھا کر اس کریں۔
- 10- سڑک کر اس کرتے وقت اپنے دائیں پھر بائیں اور پھر دائیں دیکھیں۔ پھر سڑک کر اس کریں۔
- 11- سڑک کر اس کرتے وقت تسلی کر لیں کہ سڑک بالکل کلیئر ہے۔
- 12- پختہ ارادہ بنا کر سڑک کو کر اس کریں۔
- 13- سڑک کو کر اس کرتے وقت سڑک کے درمیان میں نہ رکھیں اور نہ ہی پیچھے واپس آئیں۔

14- سڑک کراس کرتے وقت پہلے سڑک کے کنارے آ کر رکیں پھر کراس کریں۔

15- زیرہ کراسنگ والے چوک سے سڑک کو کراس کریں۔

16- زیرہ کراسنگ نزدیک نہ ہو تو تیتوں والے چوک کے پاس سے سڑک کراس کریں اور اس وقت تک کراس نہ کریں جب تک پیدل چلنے والوں کا اشارہ نہ مل جائے۔

17- زیرہ کراسنگ کے درمیان پناہ گاہ ہو تو وہاں رک جائیں اور دوسرا حصہ دوبارہ کراس کریں۔

18- اگر کہیں کانٹیل کھڑا ہو تو اس کے آگے سے سڑک کراس کریں۔ اگر کوئی خطرہ ہو تو وہ آپ کو بتا دے گا یا خود ٹریفک کو روک کر آپ کو سڑک کراس کرنے کا موقع دے گا۔

19- اگر کانٹیل اشارہ رکنے کا کرے تو پیدل والے اس پر عمل کریں نہ کہ ٹریفک میں مداخلت اور رکاوٹ پیدا کریں۔

20- اگر پیدل ہیں تو گاڑی میں سوار ہونا چاہتے ہیں تو گاڑی کے بائیں طرف سے سوار ہوں گے اور بائیں طرف سے ہی اتریں گے۔

21- اگر آپ پیدل ہیں تو بس میں سوار ہونا چاہتے ہیں تو بس کو رک لینے دیں چلتی بس میں ہرگز سوار نہ ہوں۔

22- پیلیکن کراسنگ سے سڑک کو کراس کریں۔

23- آنکھوں سے محروم افراد بھی پیلیکن کراسنگ سے سڑک کو کراس کریں۔

24- درمیانی تھڑے والی پیلیکن کراسنگ ہو تو درمیان میں رک کر سڑک کراس کریں۔

25- پیلیکن کراسنگ پر بٹن جو کہ Box میں نگا ہوا ہوتا ہے اس Box کے پاس رک کر سڑک کو پار کرنا شروع کریں۔

26- پیہوں والی کرسی بچوں والی کرسی کو پیدل کراسنگ والی جگہ پر داخل نہ کریں۔

27- اگر آپ سڑک کو کراس کرنا چاہتے ہیں اور گاڑیاں رکی ہوئی ہیں تو پھر بھی احتیاط سے کراس کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی رکی ہوئی گاڑی کو اوور ٹیک کرے اور آپ اس کو نظر نہ آئیں۔

28- اشارے والے چوک پر پیدل چلتے وقت احتیاط کریں کیونکہ کئی دفعہ اشارہ بند ہونے پر ساری ٹریفک بند نہیں ہوتی۔ ایک لائن کو فری فلور بھی مل رہا ہوتا ہے۔

29- اگر گاڑی ریل لگی ہوئی ہے تو اس کے درمیانی جگہ سے سڑک کراس کریں اور اس کو ہرگز نہ پھلانگیں۔

30- ون وے سڑکیں جہاں ہوں وہاں بھی احتیاط سے سڑک کراس کریں کیونکہ کئی دفعہ ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کئی ڈرائیور آجاتے ہیں۔

31- کھڑی ہوئی گاڑی کے پاس سے روڈ کو کراس کرنا ہو تو گاڑی کے سڑک والے کنارے کو سڑک کا کنارہ سمجھ کر اس کے پاس رک کر ٹریفک کو دائیں بائیں دیکھ کر کراس کریں۔

32- ایبولینس اور ایمر جینسی و ہنگامی گاڑیوں کے لیے سڑک کو فوراً چھوڑ دیں۔

اکیلے بچوں کو سڑک مت پار کرنے دیں۔

33- اگر بچوں کو سڑک پر پیدل چلانا مقصود ہو تو آپ بچوں کے اور سڑک کے درمیان چلیں گے۔

34- بچوں کو سڑک پر چلانا مقصود ہو تو پٹی باندھ کر چلائیں اور سر خود ہاتھ میں پکڑ لیں۔

35- بچوں کو ایک قطار میں چلائیں نہ کہ صف میں۔

36- بچوں کو اس وقت تک سڑک پر چلنے کی اجازت نہ دیں جب تک وہ ٹریفک قوانین کو سمجھ نہیں جاتے۔

37- اگر بچوں کے ساتھ آپ خود پیدل چل رہے ہوں تو قوانین کی مکمل پابندی کریں۔

38- بچوں کو سڑک کے اوپر یا نزدیک کھیلنے کی اجازت مت دیں۔

39- موٹروے پر پیدل چلنا جرم ہے ماسوائے ہنگامی صورتحال کے۔

40- موٹروے پر اگر کوئی بغیر گاڑی کے آتا ہے۔ موٹروے کو ذاتی مقاصد کے لیے کراس کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے اور جرمانہ زیر کوڈ C-21۔

41- نشہ میں ہوں تو سڑک پر نہ آئیں یہ اتنا ہی خطرناک ہے جتنا نشہ میں گاڑی چلانا۔

## 2- رات کے وقت

1- کم روشنی کے اوقات میں ایک قطار میں چلیں۔

2- اگر سڑک کو کراس کرنا مقصود ہو تو ایسی جگہ سے کریں جہاں پر روشنی ہو۔

3- ایسے طریقے اختیار کریں کہ اندھیرے میں ڈرائیوروں کو نظر آئیں۔

4- کم روشنی ہو تو ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں۔

5- روشن یا چمکنے والی چیز کو کپڑوں پر چپکائیں۔

6- Reflector میٹرل روشنی میں تین گنا زیادہ فاصلہ سے نظر آتے ہیں۔

7- چمکیلی جیکٹ یا کوئی نشان استعمال کریں۔

## 3- دھند کے وقت

1- دھند میں آنکھوں سے دیکھنے کے ساتھ ساتھ زیادہ کام کانوں سے لیں گے کیونکہ گاڑی نظر نہیں آ رہی ہوتی بلکہ اس

کی آواز زیادہ دور سے سنائی دے رہی ہوتی ہے۔

## 4- آندھی اور طوفان کے وقت

1- پیدل چلتے وقت درختوں کے قریب سے مت گزریں کیونکہ درخت گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔

2- پیدل چلتے وقت بجلی کے تاروں کے قریب سے مت گزریں۔

3- بڑے بڑے سائز بورڈوں کے قریب سے مت گزریں۔

4- عمارتوں کے قریب سے مت گزریں۔

## 5- بارش کے وقت

1- پیدل چلتے وقت احتیاط سے چلیں کیونکہ گاڑیوں کے سلف ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔

2- اگر سڑک کراس کر رہے ہیں تو گاڑی زیادہ فاصلے پر ہو تو سڑک کراس کریں۔ نسبتاً عام موسم کے۔

3- پیدل چلتے وقت احتیاط سے چلیں کیونکہ دوران بارش کئی گاڑیوں کے واپس کام نہیں کرتے۔

4- ڈرائیور کو موقع دیں کہ وہ زبرہ کراسنگ پر اپنی گاڑی کو روک سکے۔ یکدم پیدل کراس نہ کریں۔

## General Instructions For All Drivers

# ہر قسم کے ڈرائیورز کے لیے ہدایات

## گاڑی

1- سفر سے پہلے تسلی کریں کہ آپ کی گاڑی سڑک پر چلنے کے قابل ہے بیٹوں، بریکوں، سٹیئرنگ، ٹائر، ایگزاسٹ، سیٹ،

بیلٹوں، واپسوں اور سکرین دھونے والی پانی کی بوتل کی خاص احتیاط کریں۔ ونڈ سکرین دروازوں کے شیشوں، بیٹوں،

اشاروں، آئینوں اور نمبر پلیٹ کو صاف اور کلیئر رکھیں، چلنے سے پہلے دیکھیں کہ آپ کی سیٹ، سیٹ بیلٹ، سرہانہ اور

آئینے درست سمت میں لگے ہوئے ہیں۔

2- مسافر و مال بردار گاڑیوں اور وہ گاڑی جو کوئی ٹریلر کھینچ رہی ہو پر لازم ہے کہ وہ انتہائی بائیں لین میں چلیں۔

## سامان

گاڑی میں لاد کر کھینچ کر لے جایا جانے والا سامان لازماً محفوظ ہونا چاہیے۔ گاڑی یا ٹریلر میں مقررہ حد سے زیادہ سامان

ہرگز نہیں لادنا چاہیے۔ باہر نکلے ہوئے سامان کے آخری سروں پر سرخ جھنڈا اور رات کے وقت جتی باندھنی چاہیے۔

## موٹر سائیکل

موٹر سائیکل، سکوتر سوار اور اس کے ساتھ بیٹھے مسافر کو لازماً سیفٹی ہیلمٹ پہننا چاہیے اور ہیلمٹ کو سر سے مضبوط بندھا ہونا

بھی لازم ہے۔ ان سواروں کے لیے مناسب ہے کہ وہ آنکھوں کی حفاظت کے لیے عینک یا پروٹیکٹر استعمال کریں اور پاؤں

میں مضبوط بوٹ پہنیں اور ایسے دستانے اور کپڑے پہنیں کہ خدانخواستہ سڑک پر گرنے کی صورت میں حفاظت کا کام دیں۔

## آپ کی جسمانی حالت

اگر آپ بیمار یا تھکے ہوئے ہوں تو گاڑی نہ چلائیں۔ ڈرائیونگ سے آپ کو اونگھ آسکتی ہے لہذا اونگھ سے بچنے کے لیے

گاڑی میں تازہ ہوا کا گزر رہنے دیں۔ اگر آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے تھک گئے ہوں تو رکنے اور آرام کرنے کے لیے گاڑی تھکی کرنے کی جگہ یا خدمات مہیا کرنے کی جگہ چلے جائیں یا کسی دیگر مناسب مقام پر رکنے جائیں۔

1- دوائی یا نشہ آور شے کے استعمال کے بعد آپ پر لازم ہے کہ ڈرائیونگ نہ کریں اگر کسی ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائی استعمال کی گئی ہو تو ڈاکٹر کی رائے لے لیں کہ آیا اس دوائی کو استعمال کر کے ڈرائیونگ کرنا محفوظ ہوگا یا نہیں؟ شراب پینے سے سب سے پہلے انسان کے دماغ پر اثر ہوتا ہے اور وہ **Out of sence** ہو جاتا ہے اور اسے کسی چیز کو سمجھنے کی تمیز نہیں رہتی۔

2- رات کے وقت یا کم روشنی کے اوقات رنگ دار عینک یا عدسے کا استعمال نہ کریں۔

## سیٹ کی پیٹیاں

1- دوران سفر سیٹ والی پٹی باندھے ہونے سے حادثہ کی صورت میں شدید ضربات پہنچنے کے خطرہ میں کمی واقع ہوتی ہے اور مسافر جاں بحق ہونے سے محفوظ رہتے ہیں۔

2- آپ کو ہمیشہ گاڑی پر مکمل قابو حاصل رہنا چاہیے ڈرائیونگ کرتے وقت فون یا مائیکروفون کا استعمال نہ کریں اگر فون کرنے یا فون کا جواب دینے کی ضرورت ہو تو کسی محفوظ جگہ پر گاڑی کھڑی کر لیں۔

3- لازم ہے کہ آپ ٹریفک کی بتیوں کے اشاروں اور ٹریفک کے سائن بورڈز کی پابندی کریں۔

4- پولیس افسران اور سکولوں کے سامنے ٹریفک کا انتظام کرنے والے اشخاص کے دیے گئے اشاروں کی پابندی کرنا آپ پر لازم ہے۔

5- اگر کوئی گاڑی آپ کو اوور ٹیک کرنا چاہتی ہے تو اسے اوور ٹیک کرنے کا موقع دیں۔

6- آپ پر لازم ہے کہ فٹ پاتھ یا پیدل چلنے والے راستہ پر گاڑی نہ چلائیں۔

7- گاڑی کے آئینوں کا کثرت سے استعمال کریں تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ آپ کے پیچھے اور اطراف میں کیا ہو رہا ہے۔

8- سائیکل اور موٹر سائیکل سواروں کا دھیان رکھیں۔ بڑی گاڑیوں کی نسبت ان کا نظر آنا مشکل ہوتا ہے۔

9- ڈرائیور کو ہم راہی مسافروں سے بحث مباحثہ یا مسلسل بات چیت نہیں کرنی چاہیے گانا اور اسی طرح کی دیگر باتیں جن سے توجہ ہٹتی ہو اجتناب کرنا ضروری ہے۔

## سڑک پر سگریٹ اور کباڑ وغیرہ پھینکنا

چلتے ہوئے سگریٹ یا دیگر کباڑ وغیرہ سڑک پر پھینکنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔

## حد رفتار

1- رہائشی علاقوں میں گاڑی آہستہ چلائیں کچھ سڑکوں پر رفتار کم کروانے کے لیے ابھار وغیرہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں یا سڑک کی چوڑائی کم کی گئی ہوتی ہے لہذا ان سڑکوں پر محتاط رہیں۔ اس کے علاوہ ان علاقوں میں زیادہ سے زیادہ 30 کلومیٹر کی حد رفتار بھی نافذ ہو سکتی ہے۔ مختلف سڑکوں پر نافذ قانونی حد رفتار کو زبانی یاد کر لیں اور کبھی بھی اس رفتار یا سڑک کے سائن بورڈ پر لکھی ہوئی رفتار سے تجاوز نہ کریں۔

2- گیلی کیچڑ والی اور برف جمی سڑکوں پر رات کے وقت یا جب روشنی کم ہو تو ہر ایک ایسی وجہ کے لیے 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار یا 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار (جوئی شرح بھی زیادہ ہو) کے مطابق رفتار کم کریں۔

## پیدل چلنے والوں کا خیال کرنا

1- پر ہجوم کاروباری مرکز رہائشی علاقوں، بس کے اڈوں، اشیاء خورد و نوش بیچنے والے ریڑھیوں جیسے مقامات پر خصوصی طور پر گاڑی چلاتے ہوئے خصوصی احتیاط کریں۔ پیدل چلنے والے اشخاص کا دھیان رکھیں۔

2- پیدل چلنے والے بچے بوڑھے افراد شاید آپ کی رفتار کا درست اندازہ نہ کر سکیں اور یوں آپ کے سامنے سڑک پر فوراً آچڑھیں لہذا ان اشخاص کا دھیان رکھیں نابینا افراد جنہوں نے ہاتھوں میں چھڑیاں پکڑی ہوں اور گونگے افراد جن کی سفید چھڑی پر سرخ رنگ کی روشنی منعکس کرنے والی دو پٹیاں لگی ہوتی ہیں یا دیگر کسی جسمانی نقص والے پیدل افراد کا دھیان رکھیں۔ ان افراد کو سڑک پار کرنے کے لیے کافی مہلت دیں، کبھی بھی اپنے طور پر فرض نہ کر لیں کہ پیدل شخص ضرور آپ کی گاڑی کے آنے کی آواز سن رہا ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کی سماعت میں کوئی فرق ہو۔

## جہاں سڑک پر کام ہو رہا ہو

1- سڑک پر جہاں کام ہو رہا ہو خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے ان مقامات پر پہنچتے ہوئے لگائے گئے تمام سائن بورڈز کا خیال رکھیں اور ان کے مطابق عمل کریں۔ شیشوں میں سے پیچھے کی ٹریفک کا جائزہ لیں اور اپنی درست لین میں داخل ہو جائیں۔ کام کرنے والے علاقے میں مقرر کردہ رفتار سے زیادہ ہرگز گاڑی نہ چلائیں۔

2- اگر سفر کے دوران آپ کی گاڑی کی بریک فیل ہو جائیں تو پہلے دوسری ٹریفک کی حفاظت کا سوچیں اور اگر ممکن ہو تو اپنی گاڑی سڑک پر سے ہٹالیں۔

## گاڑی کی حفاظت

جب بھی آپ اپنی گاڑی کو کہیں چھوڑ رہے ہوں تو ہمیشہ  
1- گاڑی کی چابی نکال لیں اور سنٹیرنگ لاک لگا دیں۔

چاہے گاڑی کو چند منٹوں کے لیے چھوڑ کر جانا ہو اسے ہمیشہ لاک کر لیں۔

دروازوں کے شیشوں کو اوپر تک چڑھا کر بند کر دیں اگر تھوڑا سا وقفہ بھی رہ جائے تو کسی مسئلہ کا باعث بن سکتا ہے لیکن بچوں یا پالتو جانوروں کو کبھی بھی مکمل طور پر بند کار میں نہ چھوڑیں۔

گاڑی میں قیمتی اشیاء اپنے ساتھ لے جائیں یا انہیں ڈگی میں بند کر کے جائیں۔ گاڑی کے دستاویزات کبھی بھی گاڑی کے اندر چھوڑ کر نہ جائیں۔

مزید حفاظت کے لیے چور تالا یا الارم وغیرہ لگوائیں جب آپ نئی گاڑی خرید رہے ہوں تو اس میں پہلے سے نصب شدہ حفاظتی چیزوں کو چیک کر لیں کار کے تمام شیشوں پر رجسٹریشن نمبر کندہ کروانا فائدہ مند ہے اور یہ طریقہ پیشہ در چوروں سے حفاظت کا سستا اور موثر طریقہ ہے۔

## سڑک پر شائستگی کا مظاہرہ

جارحانہ انداز میں ڈرائیونگ نہ کریں اگر کوئی دوسرا ڈرائیور مسئلہ پیدا کر رہا ہو تو درگزر کریں۔

1- اگر کوئی دوسرا سڑک پر بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہا ہو تو آپ اس سے نہ الجھیں۔ اگر آپ کو غصہ آجائے تو گاڑی کھڑی کر لیں اور دل و دماغ کو پرسکون ہونے دیں۔

2- آپ کی گاڑی کا ایندھن کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ٹریفک کے درمیان چلتے ہوئے ایندھن کا ختم ہو جانا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ فالتو ایندھن یا پٹرول صرف پٹرول رکھنے کے لیے بنائے گئے مخصوص ڈبے میں بھی ڈال کر ساتھ رکھیں۔

3- ماسوائے ہنگامی حالت کے بریک لگانے کا مخصوص طریقہ یہ ہے کہ آرام سے بریک لگائی جائے اور جونہی گاڑی رکنی شروع ہو جائے اسے سخت کرتے جائیں اور پھر رکنے سے پہلے اسے ڈھیلا کر دیں جب گاڑی رکنے کے قریب ہوتی ہے تو بریک پر سے دباؤ کم کرنے سے رکتے وقت جھٹکا نہیں لگتا۔

4- ایکسیلیٹر پر زیادہ دباؤ تیز رفتاری اور دیر سے یا سخت بریکیں یہ تمام چیزیں ایندھن کی کھپت کو زیادہ کرتی ہیں۔ ایندھن کے استعمال میں بچت کریں۔

5- بریکیں گیلی ہونے پر زیادہ موثر نہیں رہتیں اس لیے اگر آپ نے پانی میں سے گاڑی گزاری ہو تو جونہی مناسب موقع ملے اپنی بریکوں کے پیڈل کو آہستگی سے دبا کر ان کے قابل کار ہونے کی یقین دہانی حاصل کریں اگر بریکیں کام نہ کر رہی ہوں تو آہستگی سے چلاتے ہوئے بریکیں لگائے رکھیں یہ طریقہ بریکوں کے خشک ہونے میں معاون ثابت ہوگا۔

6- اگر آپ کی گاڑی میں کچھ ایسی فالتو بتیاں بھی لگی ہوئی ہوں جن کی از روئے قانون ضرورت نہیں ہے تو انہیں بھی درست طریقے سے لگے ہونا اور قابل کار ہونا چاہیے۔

7- اگر گاڑی کی پچھلی سیٹوں پر بچے بیٹھے ہوئے ہوں تو بچوں والے لاک لگے ہونا مناسب بات ہوگی۔ بچوں والے لاک اگر لگے ہوئے ہوں تو دروازے اندر سے نہیں کھولے جاسکتے۔

## حادثہ اور ہنگامی حالت

- 1- اگر دوران ڈرائیونگ گاڑی کا ٹائر پھٹ جائے تو گاڑی پر کنٹرول رکھنے کی کوشش کریں۔ سٹیئرنگ کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں اور گاڑی کو سڑک کے کنارے کی طرف لے جائیں۔
- 2- اگر گاڑی کا ٹائر پچھڑ ہو جائے تو جو نہیں محفوظ ہو کر رک جائیں اگر سڑک پر ٹائر تبدیل کرتے ہوئے آپ کو خود یا کسی دوسرے کو کوئی خطرے کا اندیشہ ہو تو کسی بریک ڈاؤن سروس (ایسی ورک شاپ جو خراب گاڑیوں کو اٹھا کر ملینک کے پاس لے جاتی ہے) کو بلوائیں۔
- 3- زیادہ تر انجن پانی سے ٹھنڈے ہوتے ہیں اگر آپ کی گاڑی کا انجن زیادہ گرم ہو جائے تو انتظار کریں حتیٰ کہ یہ خود بخود قدرتی طریقے سے ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد ریڈی ایٹر کا ڈھکنا اتاریں اور اس میں پانی یا ٹھنڈی رہنے والی مائع ڈالیں۔
- 4- اگر آپ کی گاڑی کو آگ لگ جائے تو فی الفور مسافروں کو گاڑی سے نکال کر محفوظ جگہ پر لے جائیں انجن کے حصے میں لگنے والی آگ کو بجھانے کی کوشش نہ کریں۔ کیونکہ بونٹ کھولنے سے آگ مزید بھڑکے گی آگ بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ کو بلوائیں۔
- 5- اپنے ساتھ ہمیشہ ابتدائی طبی امداد کا بکس رکھیں تاکہ اگر آپ خود کسی حادثہ کا شکار ہو جائیں یا کسی حادثہ پر مدد کی غرض سے رکیں تو موثر امداد بہم پہنچا سکیں۔
- 6- زخمی اشخاص سے بات چیت کرتے رہیں اور انہیں فکر مند نہ ہونے دیں اور انہیں آرام دہ حالت میں رکھیں اور سردی سے بچائیں کسی بھی زخمی شخص کو اکیلے نہ چھوڑیں۔

## General Instructions For Drivers

### ڈرائیور کے ذاتی رویہ اور ذات کے بارے میں ہدایات

- 1- بیماری کی صورت میں گاڑی نہ چلائیں۔
- 2- نشہ کی حالت میں گاڑی نہ چلائیں۔
- 3- تھکاوٹ کی صورت میں گاڑی ڈرائیو کرنے سے اجتناب کریں۔
- 4- شدید پریشانی اور Tention کی صورت میں ڈرائیونگ نہ کریں۔
- 5- دوران ڈرائیونگ ایسا لباس زیب تن نہ کریں جو ڈرائیونگ میں مشکلات کا سبب بن سکتا ہو۔

- 6- دوران ڈرائیونگ چاک و چوڑھڑ ہونا چاہیے۔
- 7- دوران ڈرائیونگ دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔
- 8- دوران ڈرائیونگ جارحانہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔
- 9- دوران ڈرائیونگ اخلاقی اقدار کی پاسداری ضروری ہے۔
- 10- دوران ڈرائیونگ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔
- 11- دوران ڈرائیونگ ٹریفک قوانین کی پابندی لازمی کرنی چاہیے۔
- 12- دوران ڈرائیونگ موسیقی اونچی آواز میں نہیں سنی چاہیے۔
- 13- دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

## گاڑی کے استعمال کے بارے میں ہدایات

- 1- دوران ڈرائیونگ سٹیڈنگ ہینڈل کو صحیح طریقہ سے پکڑیں۔
- 2- گاڑی میں stepny کا خاص خیال رکھیں۔
- 3- ڈرائیونگ شروع کرنے سے پہلے بریکیں چیک کر لیں۔
- 4- پھسلن کی صورت میں بریک یلدم نہ لگائیں اور جام نہ کریں۔
- 5- گاڑی کو نیوٹرل حالت میں نہ چلائیں۔
- 6- گاڑی کو کلچ دبا کر نہ چلائیں۔
- 7- دوران ڈرائیونگ آئینوں کا استعمال بار بار کریں۔
- 8- دوران ڈرائیونگ اگر کوئی دوسری گاڑی پیچھے سے Dipper دے تو اسے Overtake کرنے دیں۔
- 9- اونچائی پر جاتے وقت گاڑی کو اوپر والے گیسر (یعنی چھوٹا) میں رکھیں۔
- 10- اترائی کے وقت گاڑی کو نچلے گیسر میں رکھیں۔
- 11- گاڑی ریورس Reverse کرتے وقت خاص خیال رکھیں۔
- 12- دوران بسوں اور کوچوں وغیرہ سے اترنے اور چڑھنے والے افراد کا خاص خیال رکھیں۔
- 13- دوران ڈرائیونگ دوسری گاڑی سے مناسب فاصلہ ضرور رکھیں۔
- 14- دوران ڈرائیونگ پیدل چلنے والوں کا خاص خیال رکھیں۔
- 15- دوران ڈرائیونگ ہانگوں، ریڑھیوں، رکشوں وغیرہ سے خصوصی احتیاط ضروری ہے۔
- 16- اوور ٹیکنگ ہمیشہ دائیں طرف سے کریں۔
- 17- اوور سپیڈنگ Over Speeding سے ہر صورت اجتناب کریں۔

## رات کے وقت اور خراب موسم میں ڈرائیونگ کے لیے معلومات

رات کے وقت اور خراب موسم کے دوران درج ذیل ہدایات پر عمل درآمد انتہائی ضروری ہے۔

- 1- رات کے وقت لائٹیں مدہم رکھیں۔
- 2- موڑ پر آہستہ ہو جانا چاہیے۔
- 3- دوران خراب موسم فاصلہ عام حالت سے زیادہ رکھنا چاہیے۔
- 4- دوران خراب موسم اچانک بریک لگانے سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ گاڑی کہیں پھسل نہ جائے۔
- 5- اگر خدا نخواستہ گاڑی سلسپ کر جائے تو سٹیئرنگ اسی جانب گھمانا چاہیے۔
- 6- شدید آندھی یا شدید بارشیں یا ڈالہ باری کی صورت میں تھوڑی دیر کے لیے گاڑی کھڑی بھی کی جاسکتی ہے۔
- 7- دھند کی صورت میں Fog Lights/Yellow Light کا استعمال لازمی کریں۔
- 8- دوران شدید بارش واپرز (Wipers) کا استعمال کثرت سے کریں۔

### Checking of Vehicle Before Starting

## گاڑی کا معائنہ سٹارٹ کرنے سے پہلے

### گاڑی کو سٹارٹ کرنے سے قبل چیک کرنا

جب بھی آپ گاڑی پر کسی سفر پر روانہ ہونے لگیں تو یہ آپ کے مفاد میں ہے کہ آپ اپنی گاڑی کو مکمل چیک کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ سڑک پر سفر کرنے کے قابل ہے کہ نہیں اور آپ کو دوران سفر کسی پریشانی سے دو چار نہ کرے گی اور آپ مطمئن ہو کر اس پر سفر کر سکتے ہیں اس کے لیے گاڑی کو ایک فارمولا کے تحت چیک کریں جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔

### "Power"

- یہ ایک انگریزی کا حرف ہے اس کے ہر حرف کو باری باری درج ذیل طریقہ سے لیں۔
- (i) سب سے پہلے "P" لفظ اس سے مراد ہے کہ گاڑی میں پٹرول یعنی ایندھن چیک کریں کہ یہ آپ کے سفر کے لیے کافی ہے اگر نہیں تو جیسی گاڑی مثلاً پٹرول ڈیزل CNG تو اس کو پورا کریں۔
  - (ii) اس کے بعد لفظ ہے "O" یعنی کے گاڑی کے آئیل کو چیک کریں ان میں انجن آئل بریک آئل کھچ آئل میئر آئل اور پاور سٹیئرنگ کا آئل شامل ہے۔
  - (iii) پھر "W" اس کا مطلب ہے کہ واٹر یعنی پانی آپ ریڈی ایٹر کا پانی چک کریں بیٹری کا پانی چیک کریں اور واٹر کے واٹر کا پانی چیک کریں اگر کہیں کم ہے تو پورا کریں۔
  - (iv) اس کے بعد "E" کو لیں تو اس کے تحت الیکٹرک کے آلات چیک کریں یعنی انڈیکٹرز ہیڈ لائٹس بریک لائٹس تیل

(v) جب باری آتی ہے لفظ "R" کی جس کا مطلب ہے ربڑ کے پارٹس یعنی ٹائرؤں کی حالت گاڑی کے تمام ٹائر درست حالت میں ہونے چاہئیں ہوا پوری ہو ٹائرؤں کی گڈی 1.66 ایم ایم سے کم نہیں ہونی چاہیے اور سپیرویل میں ہوا پوری ہونی چاہیے اس کے علاوہ واپر کے ربڑ بھی درست ہونے چاہئیں۔

(vi) اس کے بعد گاڑی میں بیٹھ کر کاک پٹ ڈرل کریں یعنی کہ سب سے پہلے Side View مرر Back View مرر کو ایڈجسٹ کریں اپنی سیٹ کو ایڈجسٹ کریں۔ سیٹ پر لگے ہیڈریٹ کو ایڈجسٹ کریں تاکہ کسی بھی حادثہ کی صورت میں آپ کی گردن متاثر ہونے سے محفوظ رہ سکے اس کے علاوہ بریک کے پیڈل کو دبا کر دیکھیں درست کام کر رہا ہے۔

مندرجہ بالا امور کو ترتیب وار چیک کرنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی گاڑی سفر کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔

## Driving on Road

# سڑک پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے

ایک اچھے ڈرائیور کو سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا چاہیے تاکہ اس کا سفر محفوظ ترین رہے اور وہ ممکنہ حادثہ سے بچ سکے۔

## گاڑی رکنے کا فاصلہ

گاڑی چلاتے وقت اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں تاکہ اگر کسی ایمرجنسی کی صورت میں اگلی گاڑی اچانک سپیڈ کم کرے یا رک جائے تو آپ حادثہ سے محفوظ رہ سکیں۔ اس میں آپ اپنی سپیڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلی گاڑی سے محفوظ فاصلہ رکھیں یعنی اگر آپ کی گاڑی 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جارہی ہے تو اگلی گاڑی سے آپ کا فاصلہ 80 فٹ کا تقریباً ہونا چاہیے یعنی آپ کی سپیڈ سے ڈبل فٹوں میں یا آپ دو سیکنڈ کا کلیہ اپنائیں۔

## دھند میں گاڑی چلانا

شدید دھند میں انتہائی ضرورت کے تحت سفر کریں اور درج ذیل ہدایات پر عمل کریں۔

- (i) آپ خود دیکھ سکیں اور دوسرے آپ کو دیکھ سکیں کے اصول پر عمل کریں۔ اگر حد نظر / دیکھنے کی صلاحیت انتہائی کم ہو تو فوگ لائٹس کا استعمال کریں۔ ہیڈ لائٹس ڈم رکھیں بیک لائٹس اور چاروں اشارے جلا کر رکھیں۔
- (ii) اپنے مررز کو دیکھتے رہیں اور اگلی گاڑی سے فاصلہ رکھیں تاکہ بوقت ضرورت آپ اپنی گاڑی روک سکیں۔
- (iii) اگر شدید دھند میں آپ کو اگلی گاڑی نظر آرہی ہے تو آپ اس کے بہت قریب ہیں محفوظ فاصلہ برقرار رکھیں۔

(iv) شدید دھند میں سپیڈ کنٹرول میں رکھیں۔

(v) اگر روڈ سگنل کے ذریعہ دھند کا سگنل دیا جا رہا ہو لیکن آپ کے سامنے سڑک صاف ہو تو آپ اس بات کے لیے تیار رہیں کہ آگے شدید دھند ہے کیونکہ دھند بعض اوقات وقفہ وقفہ سے گہری ہو جاتی ہے۔

## شدید سردیوں میں گاڑی چلانا

شدید سرد موسم میں گاڑی چلاتے وقت درج ذیل ہدایات پر عمل کریں۔

(i) اس بات کا یقین کریں کہ آپ کی بیٹری درست ہے اور آپ کے ریڈی ایٹر اور واشر کی بوتل میں اینٹی فریز لیکوا موجود ہے تاکہ پانی جم نہ سکے۔

(ii) شدید سردی یا نقطہ انجماد کے قریبی حالات میں گاڑی نہایت احتیاط سے چلائیں۔

(iii) برف باری کے دوران سفر انتہائی ضرورت کے تحت کریں اور سڑک پر پھسلن سے محفوظ رہنے کے لیے گاڑی بڑے گیسر یعنی پہلے یا دوسرے میں چلائیں تاکہ پھسلن سے محفوظ رہ سکیں۔

## گرمیوں کے موسم میں گاڑی چلانا

گرمیوں میں گاڑی چلاتے وقت ذیل ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔

(i) ریڈی ایٹر میں عام پانی کے ساتھ کولینٹ کا استعمال کریں تاکہ گاڑی گرم نہ ہونے پائے۔

(ii) ٹائروں میں ہوا زیادہ نہ بھریں تاکہ ٹائر برسٹ نہ ہو پائیں کیونکہ گرمی کی وجہ سے وہ پھٹ سکتے ہیں۔

(iii) اگر انجن چلتے ہوئے گرم ہو جائے تو درج ذیل اقدامات فوری کریں۔

(ا) گاڑی فوری روک لیں اور تمام سوچ آف کر دیں۔

(ب) ریڈی ایٹر پر ٹھنڈا پانی ڈالیں تاکہ درجہ حرارت کم ہو سکے۔

(ج) ریڈی ایٹر کا ڈھکنا ایک دم نہ کھولیں بلکہ موٹا کپڑا اس کے اوپر رکھ کر اس کو آہستہ کھولیں اور اس میں سے گیس کو خارج ہونے دیں۔

(د) گیس کے اخراج کے کم ہونے تک ریڈی ایٹر کا ڈھکن نہ ہٹائیں۔

(ه) انجن کو شارٹ کر کے گاڑی میں پانی دوبارہ ڈالیں اور جب تک درجہ حرارت نازل نہ ہو جائے سفر شروع نہ کریں۔

(و) گاڑی کو تیز رفتاری سے نہ چلائیں اور AC کا لوڈ بذریعہ تھر موٹیٹ کم کریں۔

## ٹریفک سائن اور سگنل کی پابندی کرنا

دوران ڈرائیونگ سڑک پر لگے ہوئے سائن بورڈز پر نظر رکھیں یہ سائن بورڈز آپ کے معاون و دوست ہیں ان سائن بورڈز پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں اور انہیں اچھی طرح سمجھ لیں کیونکہ ان پر عمل کرنے سے آپ کئی طرح کے خطرات و

پریشانیوں سے محفوظ رہتے ہیں سڑک پر آدمی جب گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو اسے مختلف قسم کے سائن بورڈز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ برقی طاقت سے چلنے والے اشاروں کو جو کہ ٹریفک سے متعلق معلومات فراہم کریں ٹریفک سگنل کہلاتے ہیں یہ سگنل آپ کو سڑک کے خطرات مثلاً حادثہ یا پھسلن کے خطرے وغیرہ سے آگاہ کرنے کے لیے جلائے جاتے ہیں نیز چوکوں کے درمیان لگے سگنل ٹریفک کنٹرول کرنے کے کام آتے ہیں۔ جلتی بجھتی زرد روشنی آگے خطرہ ہو سکتا ہے کو ظاہر کرتی ہے اس کے علاوہ عارضی حد رفتار عارضی بند کردہ لین اور دیگر اطلاعات مثلاً دھند وغیرہ کو بھی ظاہر کرنے کے لیے جلائے جاتے ہیں۔ اگر سڑک کے اوپر یعنی اوور ہیڈ لگے سگنل میں سرخ بتیاں یا سرخ کر اس کا نشان ہو تو جس لین کے اوپر سگنل جل رہا ہو گا وہ لین بند سمجھی جائے گی۔

اوپر دی گئی ہدایات کے بعد ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ ڈرائیونگ کے لیے عمومی ہدایات کیا ہیں کس طرح گاڑی شارٹ کرنے سے قبل چیک کرنی ہے اور سڑک پر ڈرائیونگ کرتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور ٹریفک سائن اور سگنل کیا ہوتے ہیں اور دوران ڈرائیونگ اگر ان کی پابندی نہ کی جائے تو ہم کس طرح مشکلات میں پھنس سکتے ہیں یعنی کہ شہروں میں لگے ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی کرنے سے ہم اپنی جان سے ہاتھ دھو سکتے ہیں یا پھر کسی اور کی زندگی سے کھیل سکتے ہیں اسی طرح ہائی وے اور موٹروے پر لگے ہوئے سائن بورڈز پر آپ اگر دھیان نہ دیں گے تو پھر آپ اپنے سفر کو محفوظ نہ بنا سکیں گے چونکہ ہائی وے یا موٹروے پر کئی جگہوں پر احتیاطی سائن پر جانوروں وغیرہ کی تصاویر بنی ہوتی ہے جو کہ اچانک سڑک پر نمودار ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کسی حادثہ کے شکار ہو سکتے ہیں یا موٹروے کے کسی انٹر چینج کو مس کر جانے سے آپ کو کتنا زائد فاصلہ طے کرنا پڑ جائے گا اور آپ کو وہی کوفت اٹھانا پڑے گی اور وقت ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا ایندھن بھی زیادہ خرچ ہوگا۔ لہذا یہ سائن آپ کے سفر کے مدد و معاون ہیں۔